

1. EMPLOYEE INFORMATION

Group/employer name		Group number	
Employee name	Employee date of birth	Gender <input type="checkbox"/> Male <input type="checkbox"/> Female	Number of hours worked per week

2. WAIVER CONFIRMATION

This is to confirm that I decline to participate in the Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska program offered through my employer's group health plan as follows.

- I do not wish to enroll **myself**. I have other Group coverage as follows:
 - CHAMPUS/Tricare
 - Medicare as primary, at the request of the Medicare enrollee
 - Another group health plan through my spouse or parent. Name of spouse's/parent's employer:
- I do not wish to enroll **myself**. I have other Individual coverage.
- I do not wish to enroll **myself**. I do not have other health coverage.
- I do not wish to enroll my spouse children.* They have other Group coverage.
- I do not wish to enroll my spouse children.* They have other Individual coverage.
- I do not wish to enroll my spouse children.* They have coverage through Medicaid/CHIP or other state-sponsored coverage.
- I do not wish to enroll my spouse children.* They do not have other health coverage.

*Please list the names of specific children you wish to waive if you are not enrolling all of them:

3. EVIDENCE OF OTHER GROUP COVERAGE

Are you an employee of a small group employer (2-99 employees)? *If unknown, check with your Group Benefits Administrator to verify.*

- No, go to Section 4
- Yes, please provide the following:

If you have declined due to having **other Group coverage for yourself**, attach one of the following to provide evidence of that other coverage.

- Copy of your insurance ID card from the other group coverage
- Copy of an Explanation of Benefits (EOB) for yourself from the other group coverage

4. EMPLOYEE SIGNATURE

If you are declining enrollment for yourself or dependents (including your spouse) because of other health care coverage, you may in the future enroll yourself or your dependents in this plan prior to the next open enrollment period. To do this, you must have involuntarily lost your other coverage (or receive a request to enroll from a state agency administering Medicaid or CHIP) and we must receive your enrollment application within 60 days after your other coverage ended. Additionally, if you have a new dependent as a result of marriage, birth, adoption, or placement for adoption, you may be able to enroll yourself and dependents, provided we receive your completed enrollment application within 60 days after the marriage, birth, adoption, or placement for adoption, unless a different time limit has been specified in your benefit booklet.

By signing below, you understand that you will be unable to obtain coverage under your employer's group health plan until the next open enrollment period, unless you and/or your dependents qualify for enrollment under the special enrollment rules described above.

Please note: A person who, with intent to injure, defraud, or deceive, knowingly makes a false or fraudulent statement or representation in or with reference to an application for insurance may be prosecuted under state law.

X	Date
---	------

Discrimination is Against the Law

Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Premera does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability or sex.

Premera:

- Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
 - Qualified sign language interpreters
 - Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
- Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
 - Qualified interpreters
 - Information written in other languages

If you need these services, contact the Civil Rights Coordinator.

If you believe that Premera has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:
 Civil Rights Coordinator - Complaints and Appeals
 PO Box 91102, Seattle, WA 98111
 Toll free 855-332-4535, Fax 425-918-5592, TTY 800-842-5357
 Email AppealsDepartmentInquiries@Premera.com

You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, the Civil Rights Coordinator is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at <https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf>, or by mail or phone at:
 U.S. Department of Health and Human Services
 200 Independence Avenue SW, Room 509F, HHH Building
 Washington, D.C. 20201, 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
 Complaint forms are available at <http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html>.

Getting Help in Other Languages

This Notice has Important Information. This notice may have important information about your application or coverage through Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska. There may be key dates in this notice. You may need to take action by certain deadlines to keep your health coverage or help with costs. You have the right to get this information and help in your language at no cost. Call 800-508-4722 (TTY: 800-842-5357).

አማርኛ (Amharic):

ይህ ማስታወሻ አሳይቷል, መረጃ ይሆል:: ይህ ማስታወሻ ሲሉ ማመልከታዊ ወይም ? Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska ብናን አሳይቷል, መረጃ ለተገዢው ይችላል:: በዚህ ማስታወሻው ወሰን ቁልፍ ቅድቶ ለጥና የተለለ:: የጊዜ ብናን ማስታወሻው በስተቀበ በኢትዮጵያ አርዳታ ለማግኘት በተመለከተ የሚገኘው ይህንን ይህንን ማስታወሻው አርዳታ አገልግሎት መሠረት አያያዝ መመሪያ ይገባዋል:: ይህንን መረጃ አንድሮች እና የለምግባው ከፍ:: የሚገኘው አርዳታ አገልግሎት መሠረት አያያዝ የሚገኘው በስተቀበ 800-508-4722 (TTY: 800-842-5357) ይደምላል::

العربية (Arabic):

يحتوي هذا الإشعار معلومات هامة. قد يحوي هذا الإشعار معلومات مهمة بخصوص طلبك أو التغطية التي تزيد الحصول عليها من خلال هذا الإشعار. وقد تحتاج لأخذ إجراء في تاريخ لاحق في تواريخ معينة المحفظ على تغطيتك الصحية أو المساعدة في دفع التكاليف. يحق لك الحصول على هذه المعلومات والمساعدة بذلك دون تكبد أية تكلفة. اتصل بـ Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska 800-508-4722 (TTY: 800-842-5357)

中文 (Chinese):

本通知有重要的訊息。本通知可能有關於您透過 Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska 提交的申請或保險的重要訊息。本通知內可能有重要日期。您可能需要在截止日期之前採取行動，以保留您的健康保險或者費用補貼。您有權利免費以您的母語得到本訊息和幫助。請撥電話 800-508-4722 (TTY: 800-842-5357)。

Oromoo (Cushite):

Beeksisti kun odeeaffanno barbaachisaa qaba. Beeksisti kun sagantaa yookan karaa Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska tiin tajaajila keessan ilaalchisee odeeaffanno barbaachisaa qabaachuu danda'a. Guyyaawwan murteessaa ta'an beeksisa kana keessatti ilaala. Tarii kaffaltiidaan deeggaramuuf yookan tajaajila fayyaa keessaniif guyyaa dhumaar irrati wanti raawwattan jiraachuu danda'a. Kaffaltii irraa bilisa haala ta'en afaan keessaniin odeeaffanno argachuu fi deeggarsa argachuu mirga ni qabaattu. Lakkoofsa bilbilaa 800-508-4722 (TTY: 800-842-5357) tiil bilbilaa.

Français (French):

Cet avis a d'importantes informations. Cet avis peut avoir d'importantes informations sur votre demande ou la couverture par l'intermédiaire de Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska. Le présent avis peut contenir des dates clés. Vous devrez peut-être prendre des mesures par certains délais pour maintenir votre couverture de santé ou d'aide avec les coûts. Vous avez le droit d'obtenir cette information et de l'aide dans votre langue à aucun coût. Appelez le 800-508-4722 (TTY: 800-842-5357).

Kreyòl ayisyen (Creole):

Avi sila a gen Enfòmasyon Enpòtan Iadann. Avi sila a kapab genyen enfòmasyon enpòtan konsènan aplikasyon w lan oswa konsènan kouverti asirans lan atravé Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska. Kapab genyen dat ki enpòtan nan avi sila a. Ou ka gen pou pran kék aksyon avan sèten dat limit pou ka kenbe kouverti asirans sante w la oswa pou yo ka ede w avèk depans yo. Se dwa w pou resewe enfòmasyon sa a ak asistans nan lang ou pale a, san ou pa gen pou peye pou sa. Rele nan 800-508-4722 (TTY: 800-842-5357).

Deutsche (German):

Diese Benachrichtigung enthält wichtige Informationen. Diese Benachrichtigung enthält unter Umständen wichtige Informationen bezüglich Ihres Antrags auf Krankenversicherungsschutz durch Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska. Suchen Sie nach eventuellen wichtigen Terminen in dieser Benachrichtigung. Sie könnten bis zu bestimmten Stichtagen handeln müssen, um Ihren Krankenversicherungsschutz oder Hilfe mit den Kosten zu behalten. Sie haben das Recht, kostenlose Hilfe und Informationen in Ihrer Sprache zu erhalten. Rufen Sie an unter 800-508-4722 (TTY: 800-842-5357).

Hmoob (Hmong):

Tsab ntawv tshaj xo no muaj cov ntshiaib lus tseem ceeb. Tej zaum tsab ntawv tshaj xo no muaj cov ntsiab lus tseem ceeb txog koj daim ntawv thov kev pab los yog koj qhov kev pab cuam los ntawm Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska. Tej zaum muaj cov hnub tseem ceeb uas sau rau hauv daim ntawv no. Tej zaum koj kuj yuav tau ua qee yam uas peb kom koj ua tsis pub dhau cov caij nyoog uas teev tseg rau hauv daim ntawv no mas koj thiay yuav tau txais kev pab cuam kho mob los yog kev pab them tej nqi kho mob ntawd. Koj muaj cai kom lawv muab cov ntshiaib lus no uas tau muab sau ua koj hom lus pub dawb rau koj. Hu rau 800-508-4722 (TTY: 800-842-5357).

Ilokano (Ilocano):

Daytoy a Pakdaar ket naglaon iti Napateg nga Impormasion. Daytoy a pakdaar mabalin nga adda ket naglaon iti napateg nga impormasion maipanggep iti apliksayonyo wenco coverage babaen iti Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska. Daytoy ket mabalin dagiti importante a petsa iti daytoy a pakdaar. Mabalin nga adda rumbeng nga aramidenyo nga addang sakbay dagiti partikular a naituding nga aldad tapno mapagtalinaedyo ti coverage ti salun-atyo wenco tulong kadagiti gastos. Adda karbenganya o mangala iti daytoy nga impormasion ken tulong iti bukodyo a pagsasao nga awan ti bayadanyo. Tumawag iti numero nga 800-508-4722 (TTY: 800-842-5357).

Italiano (Italian):

Questo avviso contiene informazioni importanti. Questo avviso può contenere informazioni importanti sulla tua domanda o copertura attraverso Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska. Potrebbero esserci date chiave in questo avviso. Potrebbe essere necessario un tuo intervento entro una scadenza determinata per consentirti di mantenere la tua copertura o sovvenzione. Hai il diritto di ottenere queste informazioni e assistenza nella tua lingua gratuitamente. Chiama 800-508-4722 (TTY: 800-842-5357).

日本語 (Japanese):

この通知には重要な情報が含まれています。この通知には、Premera Blue Cross Blue Shield of Alaskaの申請または補償範囲に関する重要な情報が含まれている場合があります。この通知に記載されている可能性がある重要な日付をご確認ください。健康保険や有料サポートを維持するには、特定の期日までに行動を取らなければならない場合があります。ご希望の言語による情報とサポートが無料で提供されます。800-508-4722 (TTY: 800-842-5357)までお電話ください。

한국어 (Korean):

본 통지서에는 중요한 정보가 들어 있습니다. 즉 이 통지서는 귀하의 신청에 관하여 그리고 Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska를 통한 커버리지에 관한 정보를 포함하고 있을 수 있습니다. 본 통지서에는 핵심이 되는 날짜들이 있을 수 있습니다. 귀하는 귀하의 건강 커버리지를 계속 유지하거나 비용을 절감하기 위해서 일정한 마감일까지 조치를 취해야 할 필요가 있을 수 있습니다. 귀하는 이러한 정보와 도움을 귀하의 언어로 비용 부담 없이 얻을 수 있는 권리가 있습니다. **800-508-4722**
(TTY: 800-842-5357)로 전화하십시오.

ລາວ (Lao):

ແຈ້ງການນີ້ມີຂໍ້ມູນສ່າຄັນ. ແຈ້ງການນີ້ອ່າດລະມີຂໍ້ມູນສ່າຄັນກ່າວກັບຄ່າຮັງຈະໜັກ ທີ່ ອາວຸມຄົ້ມຄອງປະກັນໃຫ້ຂອງທ່ານຜ່ານ Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska. ອາດລະມີວັນທີສ່າຄັນໃນແຈ້ງການນີ້. ທ່ານອາດຈະຈ່າຍບັນຕົ້ງດ່ານນິນການຕາມກ່າວມີດວລວາສະເພາະເພື່ອຮັກສາຄວາມຄົ້ມຄອງປະກັນສະຂະພາບ ຫຼື ອາວຸມຊ່ວ່ນເຫຼືອນີ້ເຈົ້າໃຊ້ຈໍາລັບຂອງທ່ານໄວ້. ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນນີ້ ແລະ ອາວຸມຊ່ວ່ນເຫຼືອນີ້ບັນພາສາຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ແຍຍຄ່າ. ໃຫ້ໃຫ້ຫາ 800-508-4722 (TTY: 800-842-5357).

ភាសាខ្មែរ (Khmer):

ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi):

ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਜਵਚ ਖਾਸ ਤਾਰੀਖਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਸਹਾਰ ਕਵਰੇਜ ਰਿੱਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇ ਇਛੁਕ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਦੀ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਦਦ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਲ 800-508-4722 (TTY: 800-842-5357).

فارسی (Farsi)

بن عالمیه ممکن است حاوی اطلاعات مهم درباره فرم
قضایا و یا پوشش بیمه ای شما از طریق Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska
با تاریخ های مهم در این عالمیه توجه نمایید. شما ممکن است برای حفظ پوشش بیمهتان یا
مشکل در پرداخت زینه های درمانی تان، به تاریخ های مشخصی برای انجام کارهای خاصی
تحتیگیری داشته باشید. شما قبلاً این را در اداره که این اطلاعات و مک را برای زبان خود به طور
اینگانه دریافت نمایید. برای کسب اطلاعات با شماره ۸۰۰-۵۰۸-۴۷۲۲
کاربران TTY ۸۰۰-۸۴۲-۵۳۵۷ تماس باشمران (۸۰۰-۸۴۲-۵۳۵۷) تماس برقرار نمایید.

Polskie (Polish):

To ogłoszenie może zawierać ważne informacje. To ogłoszenie może zawierać ważne informacje odnośnie Państwa wniosku lub zakresu świadczeń poprzez Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska. Prosimy zwrócić uwagę na kluczowe daty, które mogą być zawarte w tym ogłoszeniu aby nie przekroczyć terminów w przypadku utrzymania polisy ubezpieczeniowej lub pomocy związanej z kosztami. Macie Państwo prawo do bezpłatnej informacji we własnym języku. Zadzwójcie pod 800-508-4722 (TTY: 800-842-5357).

Português (Portuguese):

Este aviso contém informações importantes. Este aviso poderá conter informações importantes a respeito de sua aplicação ou cobertura por meio do Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska. Poderão existir datas importantes neste aviso. Talvez seja necessário que você tome providências dentro de determinados prazos para manter sua cobertura de saúde ou ajuda de custos. Você tem o direito de obter esta informação e ajuda em seu idioma e sem custos. Ligue para 800-508-4722 (TTY: 800-842-5357).

Română (Romanian):

Prezenta notificare conține informații importante. Această notificare poate conține informații importante privind cererea sau acoperirea asigurării dumneavoastră de sănătate prin Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska. Pot exista date cheie în această notificare. Este posibil să fie nevoie să acionați până la anumite termene limită pentru a vă menține acoperirea asigurării de sănătate sau asistența privitoare la costuri. Aveți dreptul de a obține gratuit aceste informații și ajutor în limba dumneavoastră. Sunați la 800-508-4722 (TTY: 800-842-5357).

Русский (Russian):

Настоящее уведомление содержит важную информацию. Это уведомление может содержать важную информацию о вашем заявлении или страховом покрытии через Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska. В настоящем уведомлении могут быть указаны ключевые даты. Вам, возможно, потребуется принять меры к определенным предельным срокам для сохранения страхового покрытия или помочь с расходами. Вы имеете право на бесплатное получение этой информации и помочь на вашем языке. Звоните по телефону 800-508-4722 (TTY: 800-842-5357).

Fa'asamoa (Samoan):

Atonu ua iai i lenei fa'asilasilaga ni fa'amatalaga e sili ona taua e tatau ona e malamalama i ai. O lenei fa'asilasilaga o se fesoasoani e fa'amatala atili i ai i le tulaga o le polokalamo, Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska, ua e tau fia maua atu i ai. Fa'amoolemo, ia e ililo fa'alelei i aso fa'apitoa olo'o iai i lenei fa'asilasilaga taua. Masalo o le'a iai ni feau e tatau ona e faia ao le'i aulia le aso ua ta'uua i lenei fa'asilasilaga ina ia e iai pea ma maua fesoasoani mai ai i le polokalamo a le Malo olo'o e iai i ai. Olo'o iai iate oe le aia tatau e maua atu i lenei fa'asilasilaga ma lenei fa'matalaga i legagana e te malamalama i ai aunoa ma se togiga tupe. Vili atu i le telefoni 800-508-4722 (TTY: 800-842-5357).

Español (Spanish):

Este Aviso contiene información importante. Es posible que este aviso contenga información importante acerca de su solicitud o cobertura a través de Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska. Es posible que haya fechas clave en este aviso. Es posible que deba tomar alguna medida antes de determinadas fechas para mantener su cobertura médica o ayuda con los costos. Usted tiene derecho a recibir esta información y ayuda en su idioma sin costo alguno. Llame al 800-508-4722 (TTY: 800-842-5357).

Tagalog (Tagalog):

Ang Paunawa na ito ay naglalaman ng mahalagang impormasyon. Ang paunawa na ito ay maaaring naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa iyong aplikasyon o pagsakop sa pamamagitan ng Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska. Maaaring may mga mahalagang peta dito sa paunawa. Maaring mangailangan ka na magsagawa ng hakbang sa ilang mga itinakdang panahon upang mapanatili ang iyong pagsakop sa kalusugan o tulong na walang gastos. May karapatan ka na makakuha ng ganitong impormasyon at tulong sa iyong wika ng walang gastos. Tumawag sa 800-508-4722 (TTY: 800-842-5357).

ไทย (Thai):

ประกันชีวิตข้อมูลสำคัญ ประกันน้ำอาจมีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการวางแผนครัวเรือนของครอบครัว ซึ่งภาพของคุณผ่าน Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska และอาจมีกำหนดการในประกันน้ำ คุณอาจจะต้องดำเนินการภายใต้กำหนดระยะเวลาที่แน่นอนเพื่อจะรักษาภาระประกันสุขภาพ ของคุณหรือการซื้อขายหรือที่เมืองท่าฯ คุณเมล็ดธิกิที่ให้ได้รับข้อมูลและความช่วยเหลือนั้นในภาษาของคุณ โดยไม่มีความเข้าใจ โทร. 800-508-4722 (TTY: 800-842-5357)

Український (Ukrainian):

Український (Ukrainian): Це повідомлення містить важливу інформацію. Це повідомлення може містити важливу інформацію про Ваше звернення щодо страхувального покриття через Premier Blue Cross Blue Shield of Alaska. Зверніть увагу на ключові дати, які можуть бути вказані у цьому повідомленні. Існує імовірність того, що Вам треба буде здійснити певні кроки у конкретні кінцеві строки для того, щоб зберегти Ваше медичне страхування або отримати фінансову допомогу. У Вас є право на отримання цієї інформації та допомоги безкоштовно на Вашій рідній мові. Дзвоніть за номером телефону 800-508-4722 (ТТУ: 800-842-5357).

Tiếng Việt (Vietnamese):

Thông báo này cung cấp thông tin quan trọng. Thông báo này có thông tin quan trọng về đơn xin tham gia hoặc hợp đồng bảo hiểm của quý vị qua chương trình Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska. Xin xem ngày quan trọng trong thông báo này. Quý vị có thể phải thực hiện theo thông báo đúng trong thời hạn để duy trì bảo hiểm sức khỏe hoặc được trợ giúp thêm về chi phí. Quý vị có quyền được biết thông tin này và được trợ giúp bằng ngôn ngữ của mình miễn phí. Xin gọi số 800-508-4722 (TTY: 800-842-5357).